

# حکمتِ سیدِ مودودی

## روزہ اور ضبطِ نفس

مربیہ: محمد یوسف صاحب لا یسیویین منصورہ - لاہور

اسلام ع جس ضبطِ نفس کا قائل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انسان کی خودی اپنے خدا کے آگے سترسلیم خم کر دے، اس کی رضاکی طلب اور اس کے قانون کی اطاعت کو اپنا شعار بنالے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ لے، پھر اس مسلم و مومن خودی کیلئے جسم اور اُس کی طاقتیں پر حاکمانہ اختدار، اور اپنے نفس اور اس کی خواہشوں پر قاہر از تسلط حاصل ہوتا کہ وہ دنیا میں ایک مصلح قوت بن سکے۔

یہ ہے اسلامی نظر سے ضبطِ نفس کی اصل حقیقت۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ روزہ کس طرح انسان میں یہ طاقت پیدا کرتا ہے۔

اگر آپ نفس و جسم کے مطالبات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ ان میں تین مطالیے اصل و بنیاد کا حکم رکھتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ طاقت ور مطالیے ہیں۔ ایک غذا کا مطلب جس بولفارٹے حیات کا اختصار ہے۔ دوسرا صرفی مطالیہ بولفارٹے نوع کا ذریعہ ہے۔ تیسرا آرام کا مطالیہ جو قوتِ کارکردگی کی بھالی کے لیے ضروری ہے۔ یہ تینوں مطالیے اگرہ اپنی حد کے اندر ہیں تو عین فشارٹے فطرت ہیں۔ لیکن نفس و جسم کے پاس یہی تین مچھنڈے ایسے ہیں کہ ذرا سی ڈھیل پاتے ہی وہ ان کے جمال میں پھانس کر آدمی کی خودی کو اٹھا اپنا عنام بنالیتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک مطالیہ بڑھ کر مطالبات کی ایک فہرست بن جاتا ہے اور ہر ایک زور لگاتا ہے کہ انسان اپنا مقصد زندگی، اپنے اصول اور اپنے ضمیر کے فتوے مجھوں کر بس اسی کے قافیے

پورے کرنے میں لگا رہے۔ ایک کمزور خودی جب ان تقاضوں سے مغلوب ہو جاتی ہے تو غذا کا مطالبہ اسے بندہ شکم بتا دیتا ہے صنفی جذبہ اس کو حیوانیت کے سفل السافلین میں پہنچا دیتا ہے، اور جسم کی آرام طلبی اس کے اندر ارادے کی کوئی طاقت باقی نہیں رہنے والی پھر وہ اپنے نفس و جسم کی حاکم نہیں بلکہ ان کی محاکوم بن کر رہتی ہے اور اس کا کام بس یہ رہ جاتا ہے کہ اس کے احکام کو بھلے اور بڑے، جائز اور ناجائز، تمام طریقوں سے بجا لایا کرے۔ روزہ نفس کی اہنی تین خواہشوں کو اپنے ضالطہ کی گرفت میں لیتا ہے اور خودی کو ان پر قابو پانے کی مشق کرتا ہے۔ وہ اس خودی کو جو خدا پر ایمان لا چکی ہے، یہ خبر دیتا ہے کہ تیرے خدا نے آج دن مجرم کے لیے تجدی پرداز پانی حرام کر دیا ہے، اس مدت کے اندر تیرے لیے پاک غذا اور جائز کمائی سے حاصل کی ہوئی غذا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے مانگنے آج تیری صنفی خواہشوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، صبح صادق سے غروبِ آفتاب تک تیرے لیے حلال طریقے سے بھی ان خواہشوں کو پورا کرنا حرام ہے۔ وہ اسے یہ اطلاع بھی دیتا ہے کہ تیرے رب کی خوشی اسی میں ہے کہ دن مجرم کی بھوک پیاس کے بعد جب نوافطار کرے تو نہ چال ہو کر لیٹ نجا بلکہ امتحان کر عالمِ دلوں سے زیادہ اس کی عبادت کر۔ وہ اس کو یہ حکم ہے، پہنچاتا ہے کہ نماز کی لمبی رکعتیں سے فارغ ہو کر جب تو اسلام لے تو صحیح تک مدھوش ہو کر نہ پڑ جا بلکہ معمولی نسلاف سحری کے لیے امتحان اور صحیح سے پہلے اپنے جسم کو غذا دے۔ یہ سارے احکام پہنچا دینے کے بعد وہ ان کی تعییں کا معاملہ خود اسی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے پیچے کوئی پولیس، کوئی سی آئی ڈسی، کوئی خارجی دباؤ ڈالتے والی طاقت نہیں لگائی جاتی۔ وہ چیز کہ کھائی پیئے یا صنفی خواہشوں پوری کر لے تو خدا کے سوا کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے۔ وہ تراویح سے پہنچنے کے لیے کوئی شرعی جبلہ کر دے تو کوئی دنیوی طاقت اس پر گرفت نہیں کر سکتی یہ سب کچھ اس کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ اگر مومن کی خودی واقعی خدا کی مطیع ہو چکی ہے اور اگر اس کے ارادے میں اشائز ور ہے کہ نفس پر قابو پاسکے تو وہ خود ہی غذا کی مانگ کر صنفی خواہش کو اور آرام کی طلب کو اس ضالطہ میں کس دے گا جو آج خلافِ معمول اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔

یہ صرف ایک دن کی مشق نہیں ہے۔ ابھی مشق کے لیے ایک دن کافی نہیں ہو سکتا مسلسل، سو دن خودی سے پہنچتی کہاٹی جاتی ہے۔ سال بھر میں ایک بار پورے سے ۲۰، گھنٹے کے لیے یہ پہنچنے کے رات کے آخوندی حصے میں امتحان کو سحری کھاؤ، صبح پوچھوٹتے ہی کھانا پینا بند کر دو، دن بھر ہر قسم کی غذائے پر ہیز کر دو، غروب آفتاب کے بعد ٹھیک وقت پر افطار کرو، پھر رات کا ایک حصہ تراویح کی غیر معمولی نماز میں کھڑے رہ گردارو، اور چند گھنٹے آنام لینے کے بعد مچھر دسرے دن کے لیے یہ پہنچنے کے ایک شروع کر دو، اسی طرح ہمیشہ بھرتک پے درپن نفس کے ان تین سب سے بڑے اور سب سے زیادہ طاقت ور مطابقوں کو مطابطے میں کستہ رہنے سے خودی کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنے نفس و جسم پر حکومت کر سکے۔ اور یہ عمر بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ کا پہنچنے کے لیے بکھر میں بلورخ کو بخوبی کے بعد سے مرتبہ دم تک ہر سال میں ایک ہمیشہ اسی مشق کے لیے وقف کیا گیا ہے تاکہ نفس پر خودی کی گرفت بارہ بار تازہ اور سخت ہوتی رہے۔

یہ ساری مشق محض اس فرض کے لیے نہیں ہے کہ اُس کو نفس د صرف اپنی بھوک اپیاس، شہوت اور آنام طلبی پر قابل پالے۔ اول اس کی فرضی یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو نفس و جسم پر یہ قابو صرف ایک رمضان ہی کے میں حاصل رہے۔ دراصل اس کا مدعا یہ ہے کہ نفس کے ان تین سب سے زیادہ تر درجہ بولنے کا مخفا بلکہ کوئی دو اس کے سارے ہی بندیات اور سارے ایسا ہی مخدوش اہانت پر قابل یافتہ ہو جائے۔ اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ محضی رمضان ہی میں نہیں، بلکہ ترمذ کے بعد بھی باقی گیارہ مہینوں میں وہ ہر اُس فرمتوں کے لیے اپنے جسم اور اس کی طاقتیوں سے کام لے سکے جو خدا نے اُس پر فرضی کی ہو، وہر اُس بھلائی کے لیے کوئی مشکل کر سکے جس میں خدا کی رضا ہو، ہر اُس پیدائش کے لیے کوئی سکے جو خدا کو ناپسند ہو، اور اپنی خواہشات و جذبات کو اُن حدود کا پابند بنائ کر رکھ سکے جو خدا نے اُس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اُس کی باگیں نفس کے قبضہ میں نہ ہوں کہ بحد صریح صورہ چاہے اُسے کھینچنے لیے بھرے، بلکہ عنانِ انتداب اس کے لپٹے ہاتھ میں رہے اور نفس کی جن خواہشوں کو، جس وقت، جس حد تک اور جس طرح پورا کرنے کی نہانے اجازت دی ہے، انہیں اسی مطابطے کے مطابق پورا کرے۔ اس کا ارادہ اتنا

کمزور نہ ہو کہ فرض کو فرض جانتا بھی ہو، ادا بھی کرتا چاہتا ہو، مگر جسم پر اُس کا حکم ہی نہ چلتا ہو۔ نہیں جسم کی ملکت میں وہ اُس نے بردست حاکم کی طرح رہے جو اپنے ماتحت عملہ سے ہر وقت اپنے حسبِ مشا کام کے سکتا ہو۔ یہی طاقت پیدا کر ناروزے کا اصل مقصد ہے، جس شخص نے روزہ سے یہ طاقت حاصل نہ کی اُس نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو بھجوک پیاس اور رت جگے کی تکلیف دی۔

قرآن اور حدیث دونوں میں اس بات کو صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ روزے کے قسم پر اس لیے فرض کیجئے گئے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ حدیث میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا۔ اُس کا پانی اور کھانا چھڑروادیئے کی خدا کو کوئی حاجت نہیں، نیز حضور نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو روزے سے بھجوک پیاس کے سوا کچھ نہیں پاتے۔

(از جان القرآن۔ اگست ۱۹۵۱ء)

### احتیاط

از جان القرآن میں ضرورتِ استدلال کے لیے آیات و احادیث شائع ہوتی رہتی ہیں۔ قارئین سے گذارش ہے کہ جن اور اق پر آیات و احادیث ہوں، آن کا خاص احترام لمحظہ کھیں تاکہ بے ادبی نہ ہونے پائے۔ (۱۴۲۱)

### ضروری اطلاع

خط دکتابت کرنے والے وقت خوبیداری نمبر جنرال  
تھس بر فرمائیں